

Nonay halanay Jamaat – English Translation

This poem was written by Hadhrat Khalifatul Masih II, Hadhrat Musleh Maud (may Allah be pleased with him). It is addressed to the youth of the Ahmadiyya Jama'at and contains many invaluable instructions on how to conduct themselves, the expectations from them and advice with regards to the great responsibility that lies upon their shoulders as the future of this blessed Jama'at.

<p>To the youth of the Jamaat, I wish to say a few things, But there is one condition-my message and must not go unheeded.</p> <p>I want to give you some words of advice, Lest I be accused (of failing in my duty).</p> <p>When we depart from this world, the burden of responsibilities will fall to you. Forsake laziness, do you not to look for comfort and ease.</p> <p>Consider service to your faith as a blessing from God, Never expect any reward for it.</p> <p>Observe the prayer and fast with heartfelt desire, And never ignore any part of the commandments.</p> <p>If you have wealth, give alms and zakat, Always show concern for the needy, and do not worry about tomorrow.</p> <p>Adopt the habit of remembrance of Allah, for it is impossible that the heart be full of the love of God but the lips do not profess His name.</p> <p>Consider this period of your life as a great favour, So that you should not be disheartened by the times to come.</p> <p>Even if you become a statesman, a general, or a scholar, we will not be pleased with you if you are devoid of Islam.</p> <p>The task is difficult, the destination far, Oh my loyal people! Never slacken your pace.</p>	<p>تُو نہا لانِ جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو</p> <p>چاہتا ہوں کہ کروں جند نصائح تم کو تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو</p> <p>جب گذر جائیں گے ہم تم پہ پڑیگا سب بار سُستیاں ترک کرو طالبِ آرام نہ ہوں</p> <p>خدمتِ دین کو اک فضلِ الہی جانو اس کے بدلے میں کبھی طالبِ انعام نہ ہو</p> <p>رغبتِ دل سے ہو پابندِ نماز و روزہ نظر انداز کوئی حصّہ احکام نہ ہو</p> <p>پاس ہو مال تو دو اس سے زکوٰۃ و صدقہ فکر مسکین رہے تم کو غمِ ایام نہ ہو</p> <p>عادتِ ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں دل میں ہو عشقِ صنم لب پہ مگر نام نہ ہو</p> <p>اپنی اس عمر کو اک نعمتِ عظمیٰ سمجھو بعد میں تاکہ تمہیں شکوہِ ایام نہ ہو</p> <p>تم مدبّر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو</p> <p>کام مشکل ہے بہت منزلِ مقصود ہے دُور</p>
---	--

We work as best we can,
When you take over, this community should not fall into disrepute.

In your favour is my prayer O loved ones,
May you always remain under the protection of Allah and may you
never face failure.

May you always be protected from the darkness of grief, pain and
sorrow,
May the sun always shine brightly for you; may dusk never fall.

آے مرے اہلِ وفا سُست کبھی گام
نہ ہو
ہم تو جس طرح بنے کام کیے
جاتے ہیں
آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ
ہو

میری تو حق میں تمہارے یہ دُعا
ہے پیارو
سر پہ اللہ کا سایہ رہے نا کام نہ ہو
ظلمتِ رنج و غم و درد سے محفوظ
رہو
مہرِ انوارِ درخشندہ رہے شام نہ ہو